


الْأَصْلُوֹةُ الْقَلِيلِيَّةُ وَالرُّوحَانِيَّةُ بِفَيْضَانِ الْغَوْثِ الْلَّا ثَانٍ

درود قلی وروحانی بفیضان غوث لاثانی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

تَنْزُلَاتُ سَتَةٍ

أَحَدِيَّثُ

غَيْبُ الْعَيْبِ فَنَا وَبَقَا عَبْدِيَّثُ

وَاحِدِيَّثُ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

رَحْمَانِيَّثُ

رَحْمَانِيَّثُ عَرْشُ الْرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَاهُوْثُ إِيمَانُ عِبَادَثُ

رَحِيْبِيَّثُ

أَرْوَاحُ وَمَلَائِكَةٍ بَالِ رُوَانُ

كُرْسِيٌّ كَهَالٌ

دَمَاغٌ كُهْفُ يُبِيْعِي

قَلْبٌ مُدَّوَّزٌ

نَفْسٌ عَلُوِّيٌّ

نَفْسٌ مُطْبَئِنَةٌ

جَدْوُثُ

مَلْكُوتُ

شَانَةٌ

آخْفَى

شَانَةٌ حَفَنِي

خَنْجَرَةٌ

سِرْ

رُوحٌ

نَفْسٌ مُمْهِيَّةٌ

بَابٌ مَلْكُوتِي

نَفْسٌ بَرْزَخِي قَلْبٌ صَنْوُبِرِي

بَرْزَخٌ مِنْ تَأْسُوْثٍ وَمَلْكُوتٍ بَابٌ تَأْسُوْتٍ نَفْسٌ سَفْلَيٌ

قَلْبٌ زَيْلُونُ فَرِي

نَفْسٌ لَوَامَةٌ

نَفْسٌ أَكْمَارَةٌ

تَأْسُوْثٌ إِسْلَامٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درو د قلبی و روحانی

بفیضان غوث لاثانی

سلام محمدی ﷺ

چهل میم غیر منقوط



مرتب

بموع دینیع شان ۱۴۳۸هـ

بفیض روحانی سیدنا مجی الدین و سیدنا معین الدین
و حضرات مخدومین سادات چودہوں پیراں

رضی اللہ عنہ

محمد عزیز سلطان ناچیز

٧٨٢/٩٢

نقش تحفہ روحانی حل امشکرات

مع اسم اللہ الیلک السُّلُوک

صمد م د م علیہ السلام
عَلِیَ اللہُ

صمد م د م علیہ السلام
عَلِیَ اللہُ

صمد م د م علیہ السلام
عَلِیَ اللہُ

صدم ح م علیہ السلام
عَلِیَ اللہُ



اس نقش کو دیکھنے والے کی
ہر شکل حل ہوگی انشاء اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مترجم

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَیْ حَبِیْبِہِ سَلِیْمانِ
مُحَمَّدِیوَالْهُ وَأَخْتَابِہِ وَأَولَیاءِ أُمَّتِہِ أَجَمِعِینَ
○ أَمَّا بَعْدُ

یہ کتاب ”درود قلبی“ روحانی بغیضان غوث لاثانی“ طالبین و سالکین کے لئے انمول روحانی خزانہ ہے جسے حضور سیدی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی خصوصی توجہات اور حضرات مخدومین سادات چودھویں پیراں رضی اللہ عنہم کی رہبری و دشگیری سے ترتیب دی گئی ہے جس میں اس فقیر کمتر کو ترجمہ کرنے کی توفیق ملی ہے اس کتاب میں خلق خدا کے لئے راحت و سکون کا سامان اور کفر والحاد اور فسق و گمراہی سے نجات و امان ہے۔ یہ کتاب اہدیتا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ (تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا) کی ہدایت دینے والی ہے اور قدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (بے شک اللہ نے

نبیوں صدیقوں شہداء اور صالح لوگوں پر انعام فرمایا ہے) کے
العام سے نوازنے والی ہے، قُلْ هُوَ لِلّٰهِ دِيْنُ اَمْنُوَا هُدًى
وَشِفَاءٌ (آپ ﷺ فرمادیں یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت
اور شفا ہے) کی رہبری اور شفاذینے والی ہے، وَإِنَّ الشَّيَّاطِينَ
لَيُوْحُونَ إِلَيْ أَوْلِيَاءِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ (اور بے شک شیاطین
اپنے دوستوں کے دلوں میں (وسوسے) ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ
تم سے جھگڑا کریں) کی خارز اروادی سے واقف کرنے والی ہے
وَإِنَّ أَطْعَمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُسْتَرُوكُونَ (اور اگر تم ان کے کہنے پر
چلے تو تم مشرک ہو جاؤ گے) کے گروہ سے بچانے والی ہے اور
افرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ هَوَاهُ (کیا تم نے اسے دیکھا جس نے
اپنی خواہش کو اپنا معبود بنالیا) کی ہوائے نفسانی سے نجات بخشنے
والی ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ (اور اللہ نے اسے علم کے باوجود
گمراہ ٹھہرایا) کی ضلالت و رجعت سے محفوظ کر کے وَخَتَمَ
عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً (اور اس نے
اس کے کان پر اور دل پر مہر کر دیا اور اس کی آنکھ پر اندھیرا ہی
اندھیرا کر دیا) کی مہر سے بچانے والی اور آنکھوں سے جبابات کو

دور کرنے والی ہے اور وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ (اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے) کا نور ایمان دیکر قلب کو ہدایت کا نور عطا کرنے والی ہے، اس کتاب میں موجود ” درود قلبی و روحانی بفیضان غوث لاثانی ” کے جملہ حروف و کلمات میں روحانی طور سے لوح محفوظ کا فیض موجود ہے جس کو پڑھنے والا لوح محفوظ کا مشاہدہ کریگا اور ایک پل میں عرش سے تخت الشری تک ملاحظہ کریگا چونکہ اس درود کو ترتیب دیتے وقت اس قدر عالم ارواح سے بشارتیں اور مبارکباد یاں ملیں ہیں جو بیان سے باہر ہیں اس درود میں انسانی قلب و روح و عقل و نفس اور ان کے ماتحت رہنے والے جملہ جوارح کو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّیٰ یَا تَبَّیِّکَ الْیَقِینُ (تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آجائے) کی تلقین کرتے ہوئے مرتبہ حق یقین کے نور کے ساتھ عبادت کرنے کا طریقہ بھی شامل ہے بلا شک و شبہ یہ ” درود قلبی و روحانی بفیضان غوث لاثانی ” عظیم کرم کا خزانہ ہے جس سے اسرار غیبی و روحانی اور مکافات قلبی کے انوار و برکات کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کو پڑھنے والا فنا فی الشیخ و فنا فی الرسول

اور فنا فی اللہ کی منزلیں پائے گا اس کے روحانی برکات کی حقیقت
 یہ ہے کہ اگر ظاہری و باطنی طہارت کے ساتھ کامل ادب ملحوظ رکھتے
 ہوئے گوشہ تہائی میں اسے روزانہ پڑھے تو سیدی حضور غوث
 الاعظم رضی اللہ عنہ کی آمد ہوگی اور آپ کی آمد کی برکت سے حضور
 اقدس ﷺ کی زیارت نصیب ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ وَلِلّهِ الْحَمْدُ
 وَلِلّهِ الشُّكْرُ۔

بارگاہ رب العالمین میں دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ اس
 خدمت کو قبول فرمائے اور ہماری جملہ کوتاہیوں اور غلطیوں کو
 معاف فرمائے اور اس کتاب کے فیضان سے ہم سب کے
 ظاہر و باطن کو مستفیض فرمائے۔ آمین بِحَمْدِ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ
 وَرَحْمَةِ لِلْعَلَمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّهُ عَلَى
 سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ أَحْمَمِيْنَ۔

جاروب کش بآستانہ عالیہ حضرات

محمد و میں سادات چودھویں پیراں رضی اللہ عنہم

مولانا مفتی محمد حامد رضا سلطانی

9695435877

بسم الله الرحمن الرحيم



فضائل

دروقلبی دروحاں بفیضان غوث لاثانی

اللہ تعالیٰ کی بے انہا حمد اور اس کا شکر ہے اور اس کے حبیب ﷺ کی بے حساب رحمت و شفقت ہے کہ پیش نظر کتاب ”دروقلبی دروحاں بفیضان غوث لاثانی“، آستانہ عالیہ حضرات مخدومین سادات چودھویں پیر ار رضی اللہ عنہم پر آپ حضرات کی

ہدایت و رہنمائی میں ترتیب دینے کی توفیق عطا ہوئی اس درود میں آکمِلُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ (میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا) کا کمال مرتبہ احسان وَ أَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نعمتی (اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی) کا تمام مرتبہ ایمان وَ رَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيَنًا (اور میں تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں) کی رضائے مرتبہ اسلام موجود ہے جو شخص اس ”دروقلبی و روحاںی بفیضان خوٹ لاثانی“ کو روزانہ صبح و شام ۱۱۰ بار یا اربار پڑھنے کا معمول بنائے گا تو وہ خصوصی طور پر ان چالیس نعمتوں اور خصائص سے نوازا جائے گا (۱) اسے اللہ تعالیٰ کی حمد و شادرو و دوسلام کے ساتھ کرنے کی توفیق ملے گی (۲) وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ قرار پائے گا (۳) اس کا ظاہر و باطن مقبول ذکر الٰہی میں مستغرق رہے گا (۴) اس کے لئے تخلیق کائنات میں غور و فکر کرنے کے دروازے کھول دیئے جائیں گے (۵) وہ صبر و شکر کرنے والوں کے گروہ میں شامل کر لیا جائے گا (۶) اس کو روح کے حقائق و معارف نصیب ہونگے (۷) اس کا قلب (دل) ہر تاریکی سے محفوظ

ہو جائے گا اسے دوام ذکر الٰہی کی نعمت ملے گی (۸) اسے تزکیہ نفس کا نور اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے اپنے نفس کو پہچانا یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچانا) کا عرفان ملے گا (۹) اس کی عقل علم کی آفتوں اور جملہ لایعنی چیزوں سے محفوظ ہو کر عقل کل کافیض پائے گی (۱۰) اسے کھلی آنکھوں سے محبوب مصطفیٰ ﷺ کا دیدار نصیب ہوگا اس کی آنکھوں سے جبابات ہٹا دیئے جائیں گے اور وہ بد نظری کی خوست سے نجات پائے گا (۱۱) اس کے کان کی سماعت اس قدر ہوگی کہ دور و نزد یک کی باتیں اس کے لئے یکساں ہوں گی اس کے کان ہر گناہ کی باتوں کے سننے سے محفوظ ہو جائیں گے (۱۲) اس کی ذات نور الٰہی سے اس قدر منور ہوگی کہ اس کا دیکھنا سenna چلنا پھرنا سب اللہ کے نور کے ساتھ ہوگا (۱۳) اسے فرات مونمانہ حاصل ہوگی اور اس کے لئے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (پس ہم نے تم سے تمہارے پردے ہٹا دیئے تو آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے) کی ندا سنائی جائے گی (۱۴) اس کا نطق (بولنا) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يَوْحَى (اور وہ کوئی بات

اپنی خواہش سے نہیں کرتے مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے) کے نور میں ہوگا (۱۵) وہ دنیا و آخرت کے ہر رنج و الم سے محفوظ ہوگا اور اسے رَبَّنَا أَتَقَدِّمُ إِلَيْهِ حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَاعَذَابَ النَّارِ (اے ہمارے پانہار تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے) کا کامل حصہ ملے گا (۱۶) اسے ایک روحانی اسلامی علم عطا کیا جائے گا اسے دین اسلام کے ارکان کا نور اور فیض ملے گا (۱۷) وہ ایسا صاحب کرامت باستقامت ہوگا کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص بامراد ہوگا (۱۸) اس پر رحمت کے ستر دروازے کھولے جائیں گے (۱۹) اسے وَعَلَّمَنَا هُوَ مِنْ لَدُنِّهِ عِلْمًا (اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا) کافیض اور علم لدنی سے نوازا جائے گا (۲۰) وہ عرش و فرش و جملہ مغیبات کا مشاہدہ کرنے والا ہوگا (۲۱) وہ رات بھر قیام کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا اس کا دن اور اس کی رات اللہ و رسول کی اطاعت و فرمان برداری میں گزریں گے اور وہ ان لمحات میں ہر معصیت سے محفوظ رہے گا (۲۲) اس کا ظاہر و باطن بغض و حسد اور غیبت

کی ناپاکی سے سلامت رہے گا (۲۳) وہ تکبر و لاقع اور خودنمائی سے نجات پاجائے گا وہ شیطان مردود اور اس کے تمام لشکریوں اور تمام جن و انس و دیگر مخلوقات کے شروں سے محفوظ ہو جائے گا (۲۴) وہ نفسانی وساوس و جملہ خصائص بہائم سے نجات پائے گا (۲۵) اسے وَلَا تُلْقُوا إِلَيْيٰ كُمَّا إِلَى التَّهْلِكَةِ (اور تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو) کا القابو گا اور وَذَرُوهُ ظَاهِرًا الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ (اور تم ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو) کا احساس دلایا جائے گا (۲۶) اس کی توبہ قبول ہو گی اور وہ ہر گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا (۲۷) رزق میں کشادگی ہو گی اور اس کے اخلاق نہایت پاکیزہ ہو جائیں گے (۲۸) اس کا گھر ہر بلا و مصیبت اور عذاب سے محفوظ رہے گا (۲۹) اس پر اللہ و رسول کا رحم و کرم اور لطف و احسان بے حساب ہو گا (۳۰) اسے اہل بیت کی شفقت و محبت اور ان کی نظر عنایت حاصل ہو گی (۳۱) اسے جملہ ارواح طیبات کا فیض ملے گا (۳۲) اس پر علم و حکمت کے ایسے چشمے پھوٹیں گے جن سے گمراہوں کو ہدایت ملے گی (۳۳) وہ اسفل سالفین (علم ناسوت) کی گھائی سے نکل کر

مقامِ احسنِ تقویم (علمِ حقیقت) پر فائز ہوگا (۳۲) اسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملے گی (۳۵) وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا (۳۶) اس کی ہر سانس ذکرِ الہی کے ساتھ نکلے گی (۷۳) وہ مرتبہ ولایت سے نواز اجائے گا (۳۸) اس کی قبرِ جنت کے باغات میں سے ایک بارغ ہوگی (۳۹) اس کا حشر اولین و آخرین کے صالحین اور درود وسلام پڑھنے والوں کے ساتھ ہوگا (۴۰) اس کی ہر دعا قبول ہوگی اور وہ مستجاب الدعوات ہوگا اور وہ ہر مہلک بیماری مثلاً کینسر، شوگر، پتھری، دل کی بیماری، دماغی بیماری اور دیگر ظاہری و باطنی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے یقیناً شفا پائے گا اگر کسی مریض یا آسیب زده کو پانی یا کھانے کی چیز پر دم کر کے دے تو اسے فوراً شفا ملے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

حاصل یہ کہ اس درود کو پڑھنے والا دنیوی و آخری کی ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا جسے نہ تو کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔

درود کے آخر میں شمس الاولیاء سلطان الاقطاب سیدی

حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی دعا بھی شامل ہے جس کو پڑھنے والا نفس امارہ کے شروں سے محفوظ ہو کر نفس لومہ و نفس ملہمہ نفس مطمئنہ نفس راضیہ نفس مرضیہ اور نفس کاملہ کے انوار کا مشاہدہ کرے گا اس کے ظاہر و باطن پر نفس کاملہ کا اثر پایا جائے گا اور اسے ان نفوس کی خاصیات و کیفیات کا عرفان حاصل ہو گا چنانچہ وہ عالم ناسوت سے اٹھ کر عالم ملکوت و عالم جبروت و عالم ہاہوت و عالم یاہوت و عالم احادیث اور عالم وحدت کا سیر کرے گا اور اسے ان عوالم میں ایسے مشاہدات و مکاشفات اور انعامات سے نوازا جائے گا جو بھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو گا بلکہ خصوص اسے دہر و قبر و حشر میں سیدی حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی رہبری اور دستگیری حاصل ہو گی اور اللہ تعالیٰ اسے ولی کامل بنائے گا نیز وہ زمانے کے ہر حادثہ و بلات اور فتنوں سے محفوظ و مامون رہے گا۔

وَلِلّهِ الْحَمْدُ وَلِلّهِ الشُّكْرُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ
الشُّكَلَانُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
آخْحَابِهِ أَجْمَعِينَ -



دروبدقلبی وروحانی بفیضان غوث لاثانی کو معمول میں لانے کا طریقہ

- (۱) صبح وشام ایک ایک بار یا صرف روزانہ ایک بار پڑھے۔
 - (۲) روزانہ ایک بار پڑھے پھر پیر کے دن اور جمعہ کے دن گیارہ گیارہ بار پڑھے۔
 - (۳) رات کی تہائی میں روزانہ اار بار ایک سال تک پڑھے۔
- ان تمام صورتوں میں اللہ دروسول اسے اپنا قرب خاص عطا کریں گے اور وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔
- (۴) قضائے حاجت کے لئے دور کعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ۱۱/۱۱ بار سورہ اخلاص پڑھے بعدہ اس کا ثواب حضور اقدس ﷺ کی بارگاہ میں نذر کرے پھر اس درود کو تین بار پڑھئے تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّفِيقِ ○



سلام محمدی ﷺ چهل میم غیر منقوط (۱۳)
 روحانی چهل میم حمد و روحانی چهل درود سلام
 دعائے غوث لاثانی

مَعَ اسْمِ اللَّهِ الْمُلِيكِ السَّلِيمِ ○ أَللَّهُمَّ
 إِلَّا هُدُوكَنَا هُدًى وَإِلَّا نُهْدِي
 مَنْ هَدَيْتَ وَمَا هُدَيْتَ بِهِ وَمَا هُدِيَ بِهِ
 إِلَّا سَلَامٌ ○ وَمَا سُطِرَ عَلَى اللَّوْحِ مُكَرَّرًا
 كُلُّ الْحَالِ عَلَى مَوْلَائِنَ أَصْلِ إِسْلَامِكَ
 وَدَارِ السَّلَامِ وَمُؤْصِلِ حُكْمِكَ ○ وَمُعْطِي
 كَبَالِ أَسْرَارِكَ وَهُوَ مَسْرُورُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ ○ وَصَارَ وَالْدُّهَ آكِمَلَ الْوَالِدِ
 وَآمَّهَ آكِمَلَ الْأُمِّ وَآلَهُ آكِمَلَ الْأَلِّ وَعَلَى

وَالِّيْهِ وَأُمِّهِ وَآلِهِ وَالْمَوْلَى عَلَيْ وَوَلَدَنِي عَلَيْ
 وَأُمِّهِمَا ○ وَمُحَمَّدٌ الْإِسْلَامُ وَآلِهِ وَوَالِي
 الْإِسْلَامُ وَآلِهِ وَأَحْمَدَ وَلِيُّ اللَّهُ وَحَوَارِي
 وَلِيُّ اللَّهُ وَآلِهِ وَكُلُّ أُمَّةٍ رَسُولُ اللَّهِ عَذَّدَ
 كُلُّ عَطَاءٍ اللَّهُ ○

مَعَ اسْمِ اللَّهِ ○ أَكْحَمْدُ اللَّهَ ○ مَوْلَائِي
 هُوَ اللَّهُ إِلَهٌ مُلِكٌ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ○ مَوْلَائِي هُوَ اللَّهُ إِلَهٌ
 أَحَدٌ صَمَدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 ○ مَوْلَائِي هُوَ اللَّهُ إِلَهٌ حَقٌّ دَائِمٌ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ○ مَوْلَائِي هُوَ
 اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سَلَمٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ○ مَوْلَائِيٌّ هُوَ اللَّهُ إِلَهٌ عَلَيْهِ
 مُعْطَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ○
 مَوْلَائِيٌّ هُوَ اللَّهُ إِلَهٌ هَادِيٌّ مُصَوِّرٌ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ○ مَوْلَائِيٌّ هُوَ
 اللَّهُ إِلَهٌ مُحْصِنٌ حَكَمٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ○ وَلَهُ كُلُّ الْأَمْرِ وَلَهُ أَعْلَى
 الْأَسْمَاءِ وَهُوَ الْأَوَّلُ الْوَدُودُ الْوَالِيُّ الْوَالِيُّ
 وَهُوَ عَلَّامُ كُلِّ الْأَسْرَارِ وَكَلَامُهُ الْأَكْرَمُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ○
 يَقُولُ رَاءُ رُوحِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ الْلَّهُمَّ يَارَبِّ صَلٰ وَسَلِّمْ عَلَى
 سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَرُوحُ مُحَمَّدٍ فِي

الْأَرْوَاح ○

يَقُولُ وَأَوْ رُوحٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا وَاحِدُ صَلٍ وَسَلِّمٍ عَلٰى
 سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَرُوحُ مُحَمَّدٍ فِي

الْأَرْوَاح ○

يَقُولُ حَاءُ رُوحٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا حَيٌّ صَلٍ وَسَلِّمٍ عَلٰى
 سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَرُوحُ مُحَمَّدٍ فِي

الْأَرْوَاح ○

يَقُولُ آمِرُ رُوحٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبُّ يَا وَاحِدُ يَا حَيٌّ
 صَلٍ وَسَلِّمٍ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ

رُوحُ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ ○

يَقُولُ قَافُ قَلْبِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ

رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا قَيْوُمَ صَلِّ وَسِلِّمْ

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا هُمَّدٍ وَقَلْبٌ هُمَّدٍ فِي

الْقُلُوبِ ○

يَقُولُ لَامٌ قَلْبِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ

رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ صَلِّ وَسِلِّمْ

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا هُمَّدٍ وَقَلْبٌ هُمَّدٍ فِي

الْقُلُوبِ ○

يَقُولُ بَاءٌ قَلْبِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ

رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا بَاسِطُ صَلِّ وَسِلِّمْ

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا هُمَّدٍ وَقَلْبٌ هُمَّدٍ فِي

الْقُلُوبُ ○

يَقُولُ أَمْرُ قَلْبِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَلَّهُمَّ يَا قَيْوُمَ يَا لَطِيفُ يَا
 بَاسِطُ صَلٍّ وَسَلِّمٌ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا
 مُحَمَّدٍ وَقَلْبُ مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ ○

يَقُولُ نُؤْنُ نَفْسِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَلَّهُمَّ يَا نُورُ صَلٍّ وَسَلِّمٌ عَلٰى
 سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَنَفْسٌ مُحَمَّدٌ فِي
 النُّفُوسِ ○

يَقُولُ فَاءُ نَفْسِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَلَّهُمَّ يَا فَتَّاحُ صَلٍّ وَسَلِّمٌ
 عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَنَفْسٌ مُحَمَّدٌ فِي

النُّفُوس ○

يَقُولُ سِينُ نَفْسِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَكَلَهُمْ يَا سَلَامُ صَلِّ
 وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَنَفِيسٍ
 مُحَمَّدٍ فِي النُّفُوس ○

يَقُولُ أَمْرُ نَفْسِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَكَلَهُمْ يَا نُورٌ يَا فَتَاحٌ يَا سَلَامٌ
 صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ
 نَفِيسٍ مُحَمَّدٍ فِي النُّفُوس ○

يَقُولُ عَيْنُ عَقْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَكَلَهُمْ يَا عَلِيِّمُ صَلِّ وَسَلِّمُ
 عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَقْلٍ مُحَمَّدٍ فِي

○الْعُقُولِ

يَقُولُ قَافٌ عَقْلٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا قَادِرُ صَلِّ
 وَسِلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَقْلٍ
 مُحَمَّدٌ فِي الْعُقُولِ ○

يَقُولُ لَامْ عَقْلٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ صَلِّ وَسِلِّمْ
 عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَقْلٍ مُحَمَّدٌ فِي
 الْعُقُولِ ○

يَقُولُ أَمْرٌ عَقْلٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا عَلِيِّمُ يَا قَادِرُ يَا
 لَطِيفُ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

مُحَمَّدٌ وَّ عَقْلٌ مُحَمَّدٌ فِي الْعُقُولِ ○

يَقُولُ رَأْسِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبُّ يَا إِلَهُ يَا حَقَّ صَلِّ
 وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ رَأْسِ
 مُحَمَّدٍ فِي الرُّؤْسِ ○

يَقُولُ جَبِينِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبُّ يَا إِلَهُ يَا حَقَّ صَلِّ
 وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ جَبِينِ
 مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْبِينِ ○

يَقُولُ سَمِعْي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبُّ يَا إِلَهُ يَا حَقَّ صَلِّ
 وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ سَمِعْي

مُحَمَّدٌ فِي الْأَسْمَاءِ ○

يَقُولُ بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَصَرِ

مُحَمَّدٌ فِي الْأَبْصَارِ ○

يَقُولُ قَوْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
 سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي
 الْأَقْوَالِ ○

يَقُولُ وَجْهِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ وَجْهُ

○**مُحَمَّدٌ فِي الْوُجُوهِ**

يَقُولُ صَدِّرِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ
صَدِّرِ مُحَمَّدٍ فِي الصُّدُورِ ○

يَقُولُ بَطْنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ بَطْنِ
مُحَمَّدٍ فِي الْبُطُونِ ○

يَقُولُ نَفْسِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ نَفْسِ

○
مُحَمَّدٌ فِي الْأَنْفَاسِ

يَقُولُ كَبِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَلَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهُ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ كَبِيرٍ
○
مُحَمَّدٌ فِي الْأَكْبَادِ

يَقُولُ وَرِيدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَلَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهُ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ وَرِيدٍ
○
مُحَمَّدٌ فِي الْوَرُودِ

يَقُولُ عَمَلٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَلَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهُ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَمَلٍ

مُحَمَّدٌ فِي الْأَعْمَالِ ○

يَقُولُ حَالِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ حَالِ
مُحَمَّدٌ فِي الْأَحْوَالِ ○

يَقُولُ فِكْرِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ
فِكْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَفْكَارِ ○

يَقُولُ عِلْمِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عِلْمِ

٢٢
مُحَمَّدٌ فِي الْعُلُومِ ○

يَقُولُ خُلُقُنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ خُلُقِ
مُحَمَّدٌ فِي الْأَخْلَاقِ ○

يَقُولُ إِسْمِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ إِسْمِ
مُحَمَّدٌ فِي الْأَسْمَاءِ ○

يَقُولُ دَهْرِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِ يَا حَقَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ دَهْرِ

مُحَمَّدٌ فِي الدُّهُورِ ○

يَقُولُ لَيْلٌ وَنَهَارٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهُ يَا حَقَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَلَيْلٌ
 مُحَمَّدٌ وَنَهَارٌ مُحَمَّدٌ فِي اللَّيَالِي وَالآنْتَرِ ○
 يَقُولُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهُ يَا حَقَّ
 صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ
 ظَاهِرٌ مُحَمَّدٌ وَبَاطِنٌ مُحَمَّدٌ فِي الظَّوَاهِرِ وَ
 الْبَوَاطِنِ ○

يَقُولُ جَسَدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ أَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا إِلَهُ يَا حَقَّ صَلِّ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ جَسَدِ

مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ ○

يَقُولُ قَبِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ

رَسُولُ اللَّهِ أَكْلَمَ يَا رَبُّ يَا إِلَهُ يَا حَقُّ صَلِّ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ قَبِيرِ

مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ ○

يَقُولُ حَشْرِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ

رَسُولُ اللَّهِ أَكْلَمَ يَا رَبُّ يَا إِلَهُ يَا حَقُّ صَلِّ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ حَشْرِ

مُحَمَّدٍ فِي الْحُشُورِ ○

يَقُولُ دُعَائِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ

رَسُولُ اللَّهِ أَكْلَمَ يَا رَبُّ يَا إِلَهُ يَا حَقُّ صَلِّ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ دُعَاء
 مُحَمَّدٍ فِي الْأَدْعِيَةِ ○ وَعَلَى وَالِدَيْهِ وَآلِهِ
 وَآزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَالسَّيِّدِ الصَّدِيقِ
 وَالسَّيِّدِ عُمَرَ وَالسَّيِّدِ عُثْمَانَ وَالسَّيِّدِ عَلَيِّ
 وَالسَّيِّدَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَالسَّيِّدِ الْحَسَنِ
 وَالسَّيِّدِ الْحُسَيْنِ وَاصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَ
 آشْيَاءِهِ وَجَمِيعِ شَهَادَاتِ كَرْبَلَا ○ وَعَلَى
 سَيِّدِنَا الْإِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِيْنَ ○ وَعَلَى
 سَيِّدِنَا الْإِمَامِ مُحَمَّدِ الْبَاقِرِ ○ وَعَلَى
 سَيِّدِنَا الْإِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ ○ وَعَلَى
 سَيِّدِنَا الْإِمَامِ مُوسَى الْكَاظِمِ ○ وَعَلَى
 سَيِّدِنَا الْإِمَامِ عَلَيِّ رَضَا ○ وَعَلَى سَيِّدِنَا

الْإِمَامِ جَوَادِ التَّقِيِّ ○ وَعَلَى سَيِّدِنَا
 الْإِمَامِ عَلَيِّ النَّقِيِّ وَعَلَى سَيِّدِنَا الْإِمَامِ
 حَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ○ وَالشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِيرِ
 الْجِيلَانِيِّ وَالْخَوَاجَةِ مُعِينِ الدِّينِ حَسَنِ
 السَّنْجَرِيِّ وَالْمَخْدُومِ السَّيِّدِ أَحْمَدَ وَلِيِّ
 اللَّهِ وَالسَّادَاتِ أَشْيَاخِ أَرْبَعَةِ عَشَرَ وَعَلَى
 سَيِّدِنَا الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ وَعَلَى كُلِّ مَنْ
 هُوَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَجْمَعِينَ
 بَعْدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ ○

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ نُورِكَ
 الَّذِي أَظْهَرْتَهُ الَّذِي ذَكَرْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 فَقُلْتَ لَهُ مُحَمَّدًا سُوْلُ اللَّهِ وَهُوَ نُورُكَ

الْمَحَبَّةُ وَيَحْقِيقُ نُورُكَ الَّذِي تُصَلِّيُ عَلَيْهِ
 وَمَلِئُكَتُكَ وَالَّذِينَ أَمْنُوا يُصَلِّونَ عَلَيْهِ
 أَنْ تَسْمَعَ غِيَاثَنَا وَنِدَائَنَا وَتُجِيبَ كُلَّ
 دُعَائِنَا وَتَغْفِرَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مَا آذَنَتْهُ عَمَدًا
 أَوْ خَطَأً سَرَّاً أَوْ عَلَانِيَةً وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ يَحْقِيقُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ○ يَا إِلَهَ مُحَمَّدٌ يَارَبَّ مُحَمَّدٍ أَنْتَ
 عَزِيزٌ عَزِيزٌ بِعِزَّتِكَ فِي الدَّهْرِ وَالْقَبْرِ
 وَالْحَشْرِ بِسَلَامَةِ الْإِيمَانِ بِرِضَائِكَ
 وَبِرِضَاءِ حَبِيبِكَ وَمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَ
 حَبِيبُكَ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ○ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ○ إِلَهِنِي آظَهِرْ
 عَلَى ظَاهِرِي سُلْطَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ○ وَحْقَقْ بَاطِنِي
 بِحَقَائِقِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهُ
 إِلَّا اللَّهُ ○ وَاسْتَغْرِقْ فِيْكَ ظَاهِرِي بِإِحَاطَةِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهُ ○
 وَاحْفَظْنِي اللَّهُمَّ بِكَ لَكَ فِي مَرَاتِبِ
 وُجُودِكَ وَشُهُودِكَ حَتَّى لَا شَهَدَ غَيْرَ
 أَفْعَالِكَ وَصِفَاتِكَ بِوَجْهِ الْحَقِّ الَّذِي لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ○ اللَّهُ اللَّهُ
 اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ دُلْنِي بِكَ عَلَيْكَ وَأَرْزُقْنِي
 الشَّبَاتَ عِنْدَ وُجُودِكَ حَتَّى أَكُونَ مُتَوَدِّبًا
 بَيْنَ يَدِيْكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ إِلَهِي بِعَظَمَتِكَ
 وَجَلَّ لِكَ أُرْزُقْنِي حُبَّكَ ○ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

إِلَهِي اجْعُلْ قَلْبَ عَبْدِكَ الْمُسْعِفَ
 مَظْهَرًا لِّذَاتِكَ وَمَنْبَعًا لِّاِيتِكَ ○ يَا أَللَّهُ
 يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ هُوَ هُوَ ○ يَا هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ
 يَا مَنْ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ هُوَ هُوَ هُوَ ○
 إِلَهِي حَقْقَ بَاطِنِي بِسِيرِ هُوَيَّتِكَ وَأَفْنِ مِيقَ
 أَنَانِيَّتِي إِلَى أَنْ تَصِلَ إِلَى هُوَيَّةِ ذَاتِكَ
 الْعَلِيَّةِ ○ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ أَفْنِ
 عَنِّي كُلَّ شَيْئٍ غَيْرَكَ وَخَفْفَ عَنِّي ثَقَلَ
 الْمَوْجُودَاتِ ○ وَامْحُ عَنِّي نُقطَةَ الْغَيْرِيَّةِ
 لَا شَاهِدَكَ وَلَا أَدْرِي غَيْرَكَ ○ يَا هُوَ يَا هُوَ
 يَا هُوَ لَا سَوْاكَ مَوْجُودٌ وَلَا سَوْاكَ مَقْصُودٌ
 يَا وُجُودَ الْوُجُودِ يَا أَللَّهُ يَا هُوَ ○ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَلَمِينَ ○ حَمْزَى حَمْزَى ○ يَا حَمْزَى يَا حَمْزَى
يَا حَمْزَى أَحَبِنِي حَيْوَةً طَيْبَةً وَاسْقِنِي مِنْ
شَرِّ ابْنِ حَبَّتِكَ أَعْذُبَهُ وَأَطْبَبَهُ ○ يَا حَمْزَى
يَا حَمْزَى يَا حَمْزَى إِلَهِي حَقْقُ حَيَاةِ بَكَ ○ يَا حَمْزَى
يَا حَمْزَى يَا حَمْزَى إِلَهِي أَظْهِرْ نُورَ حَيَاةِكَ فِي حَيَاةِ
يَا حَمْزَى يَا حَمْزَى ○ إِلَهِي أَخْبِرْ رُوحِي حَيَاةً
أَبْدِيَّةً وَمَتْعَ سِرِّي بِسِرِّكَ فِي الْحَضَرَاتِ
الشَّهْمُودِيَّةِ وَأَمْلَأْ قَلْبِي بِالْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ
وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِالْعُلُومِ اللَّدُنِيَّةِ ○ يَا حَمْزَى
يَا حَمْزَى ○ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ ○ يَا وَاحِدٌ
يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ ○ إِجْعَلْنِي مُوَحِّدًا إِنْوَرِ
وَحْدَانِيَّتِكَ مُؤَيدًا بِشَهْمُودِ فَرْدَانِيَّتِكَ ○

يَا وَاحِدُ يَا وَاحِدُ ○ إِلَهُ أَنْتَ
 الْمُتَوَحِّدُ فِي ذَاتِكَ بِالْوُهْيَّةِ ○ يَا وَاحِدُ
 يَا وَاحِدُ يَا وَاحِدُ ○ عَزِيزٌ عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ
 يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ ○ إِجْعَلْنِي بِعِزَّتِكَ بَيْنَ
 الْأَعْزَى بَيْنَ يَدِيكَ ○ يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ
 يَا عَزِيزٌ إِسْتَعْمِلْنِي بِأَعْمَالِ الْأَعْزَى
 لَدِيكَ ○ يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ إِلَهُ أَعْزَى
 بِعِزَّتِكَ ○ يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ إِلَهُ
 إِجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الْأَعْزَى ○ يَا عَزِيزٌ
 يَا عَزِيزٌ يَا عَزِيزٌ ○ وَهَابُ وَهَابُ وَهَابُ ○
 يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ هَبِّلِي مِنْ
 حَزِيلِ هَبَاتِكَ مَا يُبَلِّغُنِي إِلَى مَرْضِيَّاتِكَ

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ ○ إِلَهِي هَبْلِي
 مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ○
 يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ ○ إِلَهِي
 يَا وَاهِبَ الْأُسْرَارِ هَبْلِي مِنْ أَسْرَارِكَ
 فَيُضَّا تَجْعَلُنِي بِهِ دَائِمًا مُسْتَحْفِظًا
 لِمَوَاهِبِكَ ○ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ ○
 أَللَّهُمَّ حَقِيقَتِي بِمَوَاهِبِ حَقِيقَةِ حَقِيقَتِكَ
 يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ ○ إِلَهِي كُنْ
 شَاهِدًا عَلَى إِلْفِتَقَارِي إِلَى غَنَائِكَ الْمُطْلَقِ
 الْكَامِلِ بِالذَّاتِ فَامْنُنْ عَلَى عَبْدِكَ
 الضَّعِيفِ بِغَنِيَّ أَكُونُ بِهِ غَنِيًّا مُغْنِيًّا مَنْ
 شِئْتَ غَنَاءً بِوَصْفِ الْفَقْرِبَيْنَ يَدَيْكَ ○

أَنْتَ الْغَنِيُّ الْوَهَابُ يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ
 يَا وَهَابُ ○ وَدُودُ وَدُودُ وَدُودُ ○ يَا وَدُودُ
 يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ إِجْعَلْ قَلْبِي وَآذَالَك ○
 يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ ○ إِلَهِي أَعْطِنِي وُدًا
 فِي قُلُوبِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ ○ يَا وَدُودُ
 يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ ○ إِلَهِي إِكْفِنِي شَرَّمَنْ كِفَايَتُه
 بِيَدِكَ ○ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ ○
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ تَوَالَدَ
 وَلِمَنْ أَحَبَّنِي وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ
 الْمُؤْمِنَاتِ ○ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
 الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ أَجْمَعِينَ ○ يَحْقِّ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ هُمْ دَارُ سُولٍ

اللَّهُ ○ وَبِحَقِّ النُّفُوسِ الْخَمْسِ الْقُدُسِيَّةِ
 وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ ○ وَ بِحَقِّ
 كُلِّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنَ
 بِقُدْرَتِكَ يَا قَادِرَ الْقَادِرِيْنَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ
 تَعَالَى ○ يَا حَكَمَ الْحَاكِيمِينَ بِحُكْمِ اللَّهِ
 تَعَالَى ○ أَغْثِنِي بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى يَا فَدِيرُ
 يَا حَكِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ○
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى
 حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ○

نوٹ: آستانہ حضرات مخدومین سادات چودھویں پیر اال^{رحمۃ اللہ علیہ} سے متعلق
 جملہ مطبوعات مثلاً درود روحانی و دعائے قبی، درود محمدی ^{صلوات اللہ علیہ و آله و سلم}، سلام محمدی ^{صلوات اللہ علیہ و آله و سلم}
 مع اسرار "محمد" اور درود چہل میم وغیرہ www.syed14peer.com
 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر: 9695435877

مراد

اللہ کے اسم کے سہارے کہ وہی مالک وسلامی والا ہے اے
 ہمارے واحد اللہ، واحد اللہ ہی اللہ ہے، درود وسلام کہ اللہ اور اس
 کے ملائکہ وارد کئے اور سارے مسلم وارد کئے اور محی الاسلام وارد
 کئے اور وہ کہ مسطور علی اللوح ہے وہی درود وسلام مکر ہر دم وارد ہو
 ہمارے مولیٰ اسلام کی اصل کے لئے اور دارالسلام کی اصل کے
 لئے اور حکم الہی کے موصل کے لئے ہو اور کمال اسرار الہی کے معطی
 کے لئے ہو اور وہ اللہ کا مسرور محمد ﷺ اللہ کا رسول ہے اور اس
 رسول کے والد کمال والے ہوئے سارے والد سے اور ماں
 ساری مااؤں سے اور آل واولاد سارے آل واولاد سے اور (درود
 وسلام) اس رسول کے والد کے لئے ہو اور ماں کے لئے
 ہو اور آل کے لئے ہو، مولیٰ علی کے لئے ہو، مولیٰ علی کے لاڑلوں
 کے لئے ہو اور مولیٰ علی کے لاڑلوں کی والدہ کے لئے ہو، اسلام
 کے محی کے لئے ہو اور آل کے لئے ہو، اسلام کے مد دگار کے لئے
 ہو اور آل کے لئے ہو اور احمد ولی اللہ کے لئے ہو اور ولی اللہ کے
 ہم دمou کے لئے ہو اور آل کے لئے ہو، اللہ کے رسول کی ساری

ام کے لئے ہو ہر دم مع عدد عطاۓ الہی کے۔

توضیح ترجمہ

اللہ کے اسم کے ساتھ جو مالک ہے سلامتی والا ہے اے
ہمارے یکتا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو درود وسلام اللہ نے
بھیجا اور اس کے فرشتوں نے بھیجا اور تمام مسلمانوں نے بھیجا اور جو
درود وسلام دین کے زندہ کرنے والے محی الدین سیدنا شیخ
عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور وہ درود وسلام جو لوح
محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہی درود وسلام دوبارہ ہر دم تو نازل فرمایا
ہمارے مولیٰ تیرے اسلام کی جان پر اور جنت کی جان پر اور
تیرے حکم کے پہنچانے والے پر اور تیرے مکمل رازوں کے عطا
کرنے والے پر اور وہ اللہ کی خوشنوی محدث صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کے رسول
بیں کہ جن کے والد (سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ) تمام والد میں
سب سے زیادہ کمال والے ہیں اور جن کی ماں (بی بی آمنہ رضی
اللہ عنہا) تمام ماوں میں سب سے زیادہ کمال والی ہیں اور جن
کی آں والا دتمام آں والا دماد میں سب سے زیادہ کمال والے ہیں
اور (درود وسلام نازل ہو) آپ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کے والد پر اور آپ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ

کی والدہ پر اور آل پر، حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ پر اور مولیٰ علی کے دونوں لاڈلوں امام حسن و امام حسین علیہما السلام پر اور حسین کریمین کی والدہ خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پر اور دین کے زندہ کرنے والے مجھی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پر آپ کی آل پر اور دین کے مدگار خواجہ معین الدین حسن سنجھری پر آپ کی آل پر اور حضرت مخدوم سید احمد ولی اللہ پر، آپ کے اصحاب روحانی پر اور آل پر اور اللہ کے رسول کے سارے امتيؤں پر ہر دم عطاۓ الہی کی تعداد کے مطابق۔

ترجمہ

اللہ کے نام کے ساتھ، تمام تعریف اللہ کے لئے ہے، ہمارا مولیٰ وہ اللہ ہے جو معبود ہے، تمام ملک کا بادشاہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا مولیٰ وہ اللہ ہے جو معبود ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا مولیٰ وہ اللہ ہے جو معبود ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشگی والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا مولیٰ وہ اللہ ہے جو معبود

ہے، تھا ہے سلامتی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں
 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا مولیٰ وہ اللہ ہے جو معبد
 ہے، بلندی والا ہے، خوب عطا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی
 معبد نہیں صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا مولیٰ وہ اللہ ہے جو
 معبد ہے، ہدایت دینے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اللہ کے
 سوا کوئی معبد نہیں صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا مولیٰ وہ اللہ
 ہے جو معبد ہے، شمار کرنے والا ہے، فیصلہ فرمانے والا ہے، اللہ
 کے سوا کوئی معبد نہیں صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی کے
 لئے سارا امر ہے، اس کے بلند نام ہیں، اور وہ اول ہے، بہت محبت
 فرمانے والا ہے، بہت دوست رکھنے والا ہے، بڑا مددگار ہے، اور وہ
 تمام رازوں کو خوب جانے والا ہے، اس کا کرامت والا کلام یہ
 ہے، اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اللہ کے رسول ہیں۔
 میری روح کی رائے کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ
 اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے تو خوب
 خوب درود وسلام نازل فرمادیا سردار ہمارے نبی محمد
 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ پر اور محمد صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی روح پاک پر تمام روحوں میں۔

میری روح کا داؤ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ

اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے کیتا تو خوب خوب درود

وسلام نازل فرمادھمارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور

محمد ﷺ کی روح پاک پر تمام روحوں میں۔

میری روح کی حا، کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ

اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے زندہ رہنے والے

تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادھمارے سردار ہمارے نبی محمد

پر اور محمد ﷺ کی روح پاک پر تمام روحوں میں۔

میرا امر روح کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے

رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے کیتا اے

زندہ رہنے والے تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادھمارے

سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی روح پاک پر تمام

روحوں میں۔

میرے قلب (دل) کا قاف کہے اللہ کے سوا کوئی معبود

نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے قائم

فرمانے والے تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادھمارے سردار

ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے دل پاک پر تمام دلوں میں۔
 میرے قلب (دل) کا لام کہے اللہ کے سوا کوئی معبد
 نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے اطف
 فرمانے والے تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادہ ہمارے سردار
 ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے دل پاک پر تمام
 دلوں میں۔

میرے قلب (دل) کی بآ کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں
 محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے کشادہ فرمانے
 والے تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادہ ہمارے سردار ہمارے نبی
 محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے دل پاک پر تمام دلوں میں۔
 میرا امر قلب (دل) کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں
 محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے قائم فرمانے
 والے اے اطف فرمانے والے اے کشادہ فرمانے والے تو خوب
 خوب درود وسلام نازل فرمادہ ہمارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر
 اور محمد ﷺ کے دل پاک پر تمام دلوں میں۔

میرے نفس (جان) کا 'نون' کہے اللہ کے سوا کوئی معبد

نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے نور
 تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادہمارے سردار ہمارے نبی محمد
 ﷺ پر اور محمد ﷺ کی جان پاک پر تمام جانوں میں۔
 میرے نفس (جان) کی 'ف'، کہے اللہ کے سوا کوئی معبد
 نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے کھولنے
 والے تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادہمارے سردار ہمارے
 نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی جان پاک پر تمام جانوں میں۔
 میرے نفس (جان) کا 'سین'، کہے اللہ کے سوا کوئی معبد
 نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے سلامتی
 والے تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادہمارے سردار ہمارے
 نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی جان پاک پر تمام جانوں میں۔
 میرا امر نفس، (جان) کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد
 ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے نور اے کھولنے
 والے اے سلامتی والے تو خوب خوب درود وسلام نازل
 فرمادہمارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی جان
 پاک پر تمام جانوں میں۔

میری عقل کا 'عین، کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ
اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے علم والے تو خوب خوب
درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ
کی عقل پاک پر تمام عقلوں میں۔

میری عقل کا 'قاف، کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ
اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے قدرت والے تو خوب
خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر
اور محمد ﷺ کی عقل پاک پر تمام عقلوں میں۔

میری عقل کا 'لام، کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ
کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے لطافت والے تو خوب
خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر
اور محمد ﷺ کی عقل پاک پر تمام عقلوں میں۔

میرا امر عقل کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ
کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے علم والے اے قدرت
والے اے لطافت والے تو خوب خوب درود وسلام نازل
فرمائہ مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی عقل

پاک پر تمام عقلوں میں۔

میرا نسر کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبود اے حق ت خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے سرپاک پر تمام سروں میں۔
میری پیشانی، کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبود اے حق ت خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی پیشانی پاک پر تمام پیشانیوں میں۔

میرا کان، کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبود اے حق ت خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے کان پاک پر تمام کانوں میں۔

میری آنکھ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ

کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے اے معبدوں
اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار
ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی آنکھ پاک پر تمام
آنکھوں میں۔

میرا کلام کہے اللہ کے سوا کوئی معبدوں نہیں محمد ﷺ
کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے اے معبدوں
اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار ہمارے
نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے کلام پاک پر تمام کلاموں میں۔

میرا چہرہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبدوں نہیں محمد ﷺ
کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے اے معبدوں
اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار
ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے چہرہ پاک پر تمام
چہروں میں۔

میرا سینہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبدوں نہیں محمد ﷺ
کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے اے معبدوں
اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار

ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے سینئے پاک پر تمام سینوں میں۔

میرا شکم کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے اے معبد اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادہمارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے شکم پاک پر تمام شکموں میں۔

میری سانس، کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے اے معبد اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادہمارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی سانس پاک پر تمام سانسوں میں۔

میرا جگر کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے اے معبد اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادہمارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے جگر پاک پر تمام

جگروں میں۔

میری شرگ کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبدوںے حق تُخوب خوب درود وسلام نازل فرمادیا مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی شرگ پاک پر تمام شرگوں میں۔

میرا عمل کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبدوںے حق تُخوب خوب درود وسلام نازل فرمادیا مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے عمل پاک پر تمام اعمال میں۔

میرا حال (حالت) کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبدوںے حق تُخوب خوب درود وسلام نازل فرمادیا مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی حالت پاک پر تمام حالتوں میں۔

میری فکر کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبد

اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادھارے سردار
ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی فکر پاک پر تمام
فکروں میں۔

میرا علم، کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ اللہ
کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے اے اے معبد
اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادھارے سردار
ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے علم پاک پر تمام
علموں میں۔

میری عادت، کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ
اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے اے
معبد اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادھارے سردار
ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی عادت پاک پر تمام
عادتوں میں۔

میرا نام، کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ اللہ
کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پالنے والے اے معبد
اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمادھارے سردار

ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے نام پاک پر تمام ناموں میں۔

میرا زمانہ، کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبود اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرماء ہمارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے زمانہ پاک پر تمام زمانوں میں۔

میری رات اور میرا دن، کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبود اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرماء ہمارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی رات اور محمد ﷺ کے دن پر تمام راتوں اور دنوں میں۔

میرا ظاہر و باطن، کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے معبود اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرماء ہمارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے ظاہر و باطن پاک پر تمام

ظاہروں اور باطنوں میں۔

میرا جسم کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبد اے حق تون خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے جسم پاک پر تمام جسموں میں۔

میری قبر کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبد اے حق تون خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی قبر پاک پر تمام قبروں میں۔

میرا حشر کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبد اے حق تون خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کے حشر پاک پر تمام حشروں میں۔

میری دعا، کہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں محمد ﷺ

کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ اے پانے والے اے معبد
اے حق تو خوب خوب درود وسلام نازل فرمائہ مارے سردار
ہمارے نبی محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی دعائے پاک پر تمام
دعاؤں میں، اور (درود وسلام نازل ہو) آپ ﷺ کے والدین
پر آپ ﷺ کی آل و اولاد پر آپ ﷺ کی ازواج (مطہرات)
پر اور آپ ﷺ کی اہل بیت پر، حضرت صدیق و حضرت عمر
و حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم پر حضرت فاطمہ زہرا
رضی اللہ عنہا پر حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہما السلام
پر اور آپ ﷺ کے صحابہ و تابعین و محبین اور تمام شہداء کے کربلا
پر سیدنا امام زین العابدین پر، سیدنا امام محمد باقر پر، سیدنا امام جعفر
صادق پر اور سیدنا امام موسیٰ کاظم پر، سیدنا امام علی رضا پر، سیدنا
امام جواد تقی پر، سیدنا امام علی نقی پر، سیدنا امام حسن عسکری پر اور
حضرت شیخ عبدالقدار جیلانی و حضرت خواجہ معین الدین حسن
سنجھری اور حضرت مخدوم سید احمد ولی اللہ و سادات چودھویں پیراں
اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر، اور تمام آسمانوں اور

زمینوں میں سے اہل والوں پر تیری تمام معلوم تعداد کے مطابق۔
 اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے
 اس نور کے واسطے سے کہ جسے تو نے ظاہر فرمایا جس کا ذکر لا الہ
 الا اللہ ہے پس تو نے اس سے فرمایا محمد رسول اللہ اور وہ تیرے نور
 محبت ہیں اور تیرے اس نور کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس
 پر تو تیرے فرشتے اور ایمان والے درود بھیجتے ہیں کہ تو ہماری فریاد
 اور پکار کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان تمام
 گناہوں کو بخش دے جو میں نے جان بوجھ کر یا انجانے میں
 حچپ کر یا اعلانیہ طور پر کئے اور میں تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں
 اس حق کے واسطے کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں ۔ اے
 محمد ﷺ کے اللہ اے محمد ﷺ کے پانہار تو عزت والا ہے
 بوسیلہ تیری بلند عزت کے تو ہمیں دہر میں قبر میں حشر میں سلامتی
 ایمان کے ساتھ عزت والا کردے تیری اور تیرے حبیب
 ﷺ کی خوشنودی کے ساتھ اور جس سے تو اور تیرا حبیب راضی
 ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں اللہ کے
 سوا کوئی معبد نہیں اے میرے معبد تو میرے ظاہر پر لا الہ الا اللہ

کا غلبہ ظاہر فرماء لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور میرے
 باطن پر لا الہ الا اللہ کی حقیقتوں کو تحقیق فرمالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
 لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے احاطہ سے
 میرے ظاہر کو اپنی ذات میں مستغرق فرماء اور میری حفاظت فرماء
 اے اللہ اپنے ساتھ اپنے لئے اپنے وجود اور شہود کے مراتب میں
 یہاں تک کہ نہ مشاہدہ کروں میں بجز تیرے افعال اور صفات
 کے بحر مت اس سچائی کے جو یہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
 الا اللہ۔ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ
 رہنمائی فرمائی اپنے ذریعہ سے اپنی ذات کی طرف اور نصیب
 فرمائجھے ثابت قدی اپنے وجود کے حضور میں یہ کہ ہوجاؤں میں
 سراپا ادب تیری بارگاہ میں اے اللہ اے اللہ اے اللہ
 اے میرے معبد اپنی عظمت و جلال کے صدقے مجھے اپنی محبت
 نصیب فرمایا اللہ یا اللہ یا اللہ اے میرے معبد اپنے اس ضعیف
 بندے کے دل کو اپنی ذات کا مظہر بنادے اور اپنی قدرت کی
 نشانیوں کا سرچشمہ بنادے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہی ہے وہی ہے
 وہی ہے اے وہ اے وہ اے وہ ذات جو اللہ ہے نہیں کوئی


معبود سوائے تیرے وہی ہے وہی ہے وہی ہے اے میرے معبود
 تو ہمارے باطن کو اپنی ذات ہویت کے راز کے ساتھ متحقق
 فرمادے اور مجھ سے میری انانیت کو فنا کر دے یہاں تک کہ وہ
 تیری بلند ذات ہویت سے واصل ہو جائے اے وہ ذات جس
 کے مثل کوئی چیز نہیں تو مجھ سے اپنے سوا ہر چیز کو فنا کر دے اور مجھ
 سے تمام موجودات کے بوجھ کو ہلاکا فرمادے اور مجھ سے غیریت
 کے نقطہ کو مٹا دے تاکہ میں صرف تیرا مشاہدہ کروں اور تیرے سوا
 کچھ نہ جانوں، اے وہ اے وہ اے وہ تیرے سوا کوئی موجود نہیں
 تیرے سوا کوئی مقصود نہیں اے تمام وجود کے وجود اے اللہ اے
 وہ، اور تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا
 پالنہار ہے، زندہ رہنے والا ہے زندہ رہنے والا ہے زندہ رہنے والا
 ہے یا حی یا حی یا حی، عطا فرم ا مجھے پا کیزہ زندگی اور پلا مجھے اپنی
 محبت کی شراب سے وہ شراب جو بہت میٹھی ہے اور پا کیزہ ہے
 یا حی یا حی یا حی اے میرے معبود میری زندگی کو اپنی ذات کے
 ساتھ متحقق کر دے یا حی یا حی یا حی اے میرے معبود اپنی زندگی
 کے نور کو میری زندگی میں ظاہر کر دے یا حی یا حی یا حی اے

میرے معبود میری روح کو ابدی زندگی عطا فرم اور میرے راز کو
 اپنے سر نہاں سے اپنے شہود کی بارگاہوں میں بہرہ مند فرم اور
 بھر دے میرے دل کو معارف ربانی سے اور میری زبان کو علوم
 لدنی کے ساتھ گویا فرمادے یا حی یا حی۔ کیتا ہے کیتا ہے
 کیتا ہے اے واحد اے واحد اے واحد بنادے مجھے توحید
 والوں میں سے اپنی وحدانیت کے نور کے ساتھ اور میری مد فرم
 اپنی کیتنائی کے شہود سے یا واحد یا واحد یا واحد اے میرے معبود
 توہی واحد ہے اپنی ذات میں اپنی الوہیت کے ساتھ یا واحد
 یا واحد یا واحد۔ عزت والا ہے عزت والا ہے عزت والا ہے
 یا عزیز یا عزیز یا عزیز کردے مجھے اپنی عزت کے ساتھ ان
 معززین میں سے جو تیری جناب میں معزز ہیں یا عزیز یا عزیز
 یا عزیز اور مجھے ان لوگوں کے اعمال کی توفیق بخش جو تیری بارگاہ
 میں معزز ہیں یا عزیز یا عزیز یا عزیز اے میرے معبود اپنی
 عزت کے ساتھ مجھے عزت عطا فرمایا عزیز یا عزیز یا عزیز اے
 میرے معبود بنادے مجھے اپنے ان بندوں میں سے جو معزز ہیں
 یا عزیز یا عزیز یا عزیز۔ بے انداز بکشئے والا ہے بے انداز بکشئے

والا ہے بے انداز بخششے والا ہے اے بے انداز بخششے والے اے
 بے انداز بخششے والے اے بے انداز بخششے والے عطا فرمان مجھے اپنی
 بہترین عطیات سے جو پہنچا دے مجھے تیری خوش ندویوں کی
 طرف یا وھاب یا وھاب اے میرے معبد عطا فرما
 مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت بے شک تو ہی بے حساب عطا فرمانے
 والا ہے یا وھاب یا وھاب یا وھاب اے میرے معبد اے
 رازوں کے عطا فرمانے والے مجھے اپنے رازوں سے ایسا فیض
 بخش کہ بنادے تو مجھے اس کے ساتھ ہمیشہ حفاظت کرنے والا
 اپنی عطیات کا یا وھاب یا وھاب یا وھاب اے میرے معبد
 متحقق کردے مجھے اپنی حقیقت کی حقیقت کے عطیات کے ساتھ
 یا وھاب یا وھاب یا وھاب اے میرے معبد تو گواہ ہو جا میری
 ذات پر کہ میں محتاج ہوں تیری غنا کی طرف جو مطلق اور کامل
 بالذات ہے پس احسان فرمایا پنے کمزور بندے پر اپنی غنا
 کے ساتھ تاکہ میں اس کے ساتھ خود بھی غنی ہو جاؤں اور دوسروں
 کو بھی غنی کر دوں جس کو غنی کرنے کا توار ادھ فرمادے اور میں تیری
 بارگاہ میں وصف فقر سے متصف ہوں تو ہی غنی ہے اور بہت بخشش

والا ہے یا وھاب یا وھاب یا وھاب۔ بہت محبت کرنے والا ہے
 بہت محبت کرنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے یا ودود یا ودود
 یا ودود بنادے میرے دل کو کہ محبت کرنے لگے تجھ سے یا ودود
 یا ودود یا ودود اے میرے معبدوں میری محبت اپنے مومن بندوں
 کے دلوں میں ڈال دے یا ودود یا ودود یا ودود اے میرے معبدوں
 مجھے اس شخص کے شر سے بچائے جس کے شر سے بچانا تیرے
 دست قدرت میں ہے یا ودود یا ودود یا ودود اے میرے اللہ تو
 مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے میرے اہل و عیال کو
 بخش دے میرے احباب کو بخش دے اور تمام مومن مردوں عورت
 تمام مسلمان مردوں عورت زندوں اور مردوں میں سے سب کو بخش
 دے۔ اس حق کے واسطے کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں اللہ کے نور
 کے نور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں واسطہ ہے پختون پاک کا اور
 واسطہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کا اور واسطہ ہے ان کا جو آسمانوں
 اور زمینوں میں اہل والے ہیں، واسطہ ہے تیری قدرت کا اے
 تمام قدرت والوں میں قدرت والے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے
 ساتھ اے تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم، اے قدرت والے

اے حکمت والے تو اپنی اذن کے واسطے سے میری فریاد کو سن
 لے اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان تیری
 رحمت کا واسطہ ہے، اور تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے
 جہان کا پانہ ہار ہے اور اللہ خوب درود وسلام اور برکت نازل
 فرمائے اپنے حبیب محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل پر
 اور آپ ﷺ کے اصحاب پر۔







آستانہ حضرات مندو مین سادات چودھویں پیراں ﷺ

نوت: آستانہ حضرات مندو مین سادات چودھویں پیراں ﷺ سے متعلق
جملہ مطبوعات مثلًا درود روحانی و دعائے قلبی، درود محمدی ﷺ، سلام محمدی ﷺ
مع اسرار ”محمد“ اور درود چہل میسم وغیرہ www.syed14peer.com
پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ رابط نمبر: 9695435877

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

تَنْزُلَاتِ سَتَةٍ





آستانہ حضرات مخدومین سادات چودھویں بیگان (علیہم الرحمۃ والرضوان) الہ آباد

www.syed14peer.com